



PRESS RELEASE

For immediate release

March 18, 2020

SECP linked short selling with uptick rule in future market

Islamabad, March 18: In the wake of COVID-19 and its unprecedented effect on global stock markets, the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), in consultation with market stakeholders and market infrastructure institutions, has decided that for the April 2020 contract, short sale in 36 specific shares of future market shall be subject to an uptick rule. This will ensure provision of required prior notice period to the market and retain liquidity in the rollover week.

Further, to support the mutual fund industry, the maximum period of borrowing by mutual funds for redemption purposes will be extended from existing 90 days to 360 days. Moreover, the Commission has allowed to relax deposit requirements against base minimum capital of TREC holders.

The requirement to perform biometric verification at the time of opening of account is eased and the biometric verification may be performed within 90 days. However, other KYC requirements as per the CKO and NCCPL Regulations including VERISYS shall remain applicable.

Earlier, a number of facilitative measures have been undertaken by the SECP which include (i) collection of market-wide concentration margins at specified threshold to rationalize mode of implementation (ii) near cash instruments collected as acceptable market collateral against exposure by NCCPL (iii) inclusion of close-out mechanism in DFC market and (iv) release of 50% MtM profit in deliverable futures market on T+1 basis and (v) amendments to the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 to remove free-float condition for shares to be held as treasury.

Over the last couple of weeks, the SECP has been maintaining close coordination with the Stock Exchange, Clearing and Depository Companies and other market participants and has held multiple sessions. It is comforting that the various risk management measures and market halts instilled in the stock market working effectively, margins were collected in timely manner and no settlement issues were witnessed.

ایس ای سی پی نے فیوچر مارکیٹ میں شارٹ سیلنگ کو اپ ٹک رول سے منسلک کر دیا

اسلام آباد (مارچ 18) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اسٹاک مارکیٹ پر پڑنے والے اثرات کے تناظر فیوچر مارکیٹ میں حصص کی شارٹ سیلنگ کو اپ ٹک رول سے مشروط کر دیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے تمام شراکت داروں کے مشاورت سے لیا گیا یہ فیصلہ مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کو بحال رکھنے میں معاون ہوگا۔

اس حوالے سے ایس ای سی پی کے جاری کردی سرکلر کے مطابق فیوچر مارکیٹ کے 36 حصص میں شارٹ سیلنگ کو اپ ٹک رول سے مشروط کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ، میوچل فنڈ انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لئے میوچل فنڈز کے لئے قرض کی مدت کو 90 دن سے بڑھا کے 360 دن کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے مارکیٹ کے ٹی آر ای سی ہولڈرز کی کم از کم سرمائے کے عوض ڈیپازٹ کی شرائط کو بھی کم کر دیا ہے۔

ایس ای سی پی نے مارکیٹ میں نئے اکاؤنٹ کو کھولنے کے لئے کے وائے سی کی تصدیق کو مکمل کرنے کے لئے بھی سہولت فراہم کر دی ہے۔ اب نئے سرمایہ کاروں کے لئے کے وائے سی کا عمل 90 دن میں مکمل کیا جاسکتا ہے۔

ایس ای سی پی مارکیٹ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام متعلقہ اداروں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔

ٹکروز؛

ایس ای سی پی نے فیوچر مارکیٹ میں شارٹ سیلنگ کو اپ ٹک رول سے منسلک کر دیا

فیصلہ اسٹاک مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کو بحال رکھنے میں معاون ہوگا۔ ایس ای سی پی

ایس ای سی پی کے سرکلر کے مطابق فیوچر مارکیٹ کے 36 حصص کو اپ ٹک رول سے مشروط کیا گیا ہے۔

میوچل فنڈ کے لئے قرض کی مدت کو 90 دن سے بڑھا کے 360 دن کر دیا گیا ہے۔

مارکیٹ کے بروکرز کی کم از کم سرمائے کے عوض ڈیپازٹ کی شرائط کو بھی کم کر دیا گیا ہے۔ ایس ای سی پی

ایس ای سی پی مارکیٹ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور تمام متعلقہ اداروں اور شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔